

مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ سے ملاقات | ایشیاء کی کانفرنس کے بعد مولانا قاری محمد طیب صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند بالاکوٹ جاتے ہوئے گیارہ جولائی راولپنڈی تشریف لائے اسی دن حضرت شیخ الحدیث صاحب ڈاکٹروں کے محاصرے کے لیے راولپنڈی پہنچ کر جامعہ اسلامیہ راولپنڈی صدر میں مقیم تھے حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کو حضرت کی علالت اور راولپنڈی میں موجودگی کا علم ہوا تو فوراً حضرت کی قیام گاہ پر پہنچے رفقاء مولانا محمد سالم قاسمی مولانا حامد الانصاری غازی اور دیگر حضرات کے ساتھ تشریف لائے حضرت شیخ الحدیث نے منابت معذرت کی کہ میں خود حاضر ہوتا مگر حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے سبقت کی کہ اس علالت میں آپ کو نقل و حرکت کی تکلیف نہ ہو کچھ دیر تک جامعہ اسلامیہ میں بی بیاری مجلس قائم رہی اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام بالاکوٹ پر روانہ ہو گئے۔

وفاقی وزراء کی آمد | ۱۱ جولائی — وفاقی وزیر محنت و آباد کاری جناب چوہدری نعمت اللہ صاحب

و وفاقی وزیر تعمیرات جناب فدا محمد خان صاحب صبح صبح اچانک دارالعلوم حقانیہ تشریف لائے تاکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات کر سکیں مولانا سمیع الحق صاحب نے انجلیں دارالعلوم کے نئے تعمیرات کا معائنہ کرایا اور پھر امتحان گاہ میں لے گئے جہاں وفاقی المدارس کے زیر نگرانی دورہ تشریف کے امتحانات ہو رہے تھے اس کے بعد دونوں محرز حضرات شہر میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے مکان پر گئے اور حضرت کی خدمت میں کچھ دیر رہے چوہدری ظہور الہی صاحب نے حضرت سے اپنے دیرینہ گہرے تعلق اور عقیدت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ وزارت کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد گھر جانے سے قبل آپ کی زیارت کروں۔

۱۶ جولائی — مولانا ابوالحسن ندوی کی آمد (جسکی تفصیل شامل التحی ہے)

دیگر واردین و مجاہدین | ۲۰ جولائی — جناب ارباب سکندر خان غیلیا سابق وزیر سرحد

اور میجر جنرل غلام حیلانی صاحب نے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات و عبادت کی کچھ دیر حضرت کے ساتھ رہے۔

۱۸ اگست — جناب ڈاکٹر ڈالے پوتا صاحب ڈاکٹر کبیرا اسلامی تحقیقاتی ادارہ اپنے رفقاء جناب محمود احمد غازی صاحب اور میجر محمد حامد صاحب کاکول سوات کے تعلیمی کانفرنس میں شرکت کرتے جاتے ہوئے کچھ دیر دارالعلوم حقانیہ کے بوجہ تعطیلات اور مولانا سمیع الحق صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے مختصر قیام کے بعد تشریف لے گئے۔